

FA Part 2 Home Economics Chapter 4 Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	پروٹن کی کمی کی وجہ سے کون سی بیماری بوجاتی ہے۔	A. ملیریا B. ایتھیز C. ایڈز D. کواشیکور
2	پروٹن سے بمارے جسم کے خلیوں کی کاپوتی ہے۔	A. تعییر و مرمت B. شکست و ریخت C. بڑھوٹری D. نور پھوڑ
3	پروٹن کا کردار بمارے جسم میں کس طرح کا ہوتا ہے۔	A. مٹی B. ریت C. سیمٹ D. پلنی
4	بمارے جسم میں کتنی فیصد پروٹن مختلف جگہوں پر موجود ہے۔	A. 60 فیصد B. 75 فیصد C. 55 فیصد D. 90 فیصد
5	پروٹن کا لفظ کس زبان سے لیا گیا ہے۔	A. عربی B. ترکش C. لاطینی D. یونانی
6	احمیات کی حیثیت بمارے جسم میں کس کے بعد انتہائی اہم ہے۔	A. بوا B. خوراک C. پانی D. سائنس
7	جسم کو توانائی کس سے ملتی ہے۔	A. نسلستہ اور جرمی سے B. لحمیات سے C. پروٹن سے D. جیاتین سے
8	پروٹن میں کیا کیشامی پوسکتابی ہے۔	A. لوب اور آئوٹن B. سلفر اور گندہک C. نائلزوجن D. فلسفورس
9	مچہلی، پنیر اور کلیجی میں پروٹن کی کتنی مقدار ہوتی ہے۔	A. 30.21 فیصد B. 20 فیصد سے C. 30 فیصد سے D. 15 فیصد سے
10	پکتے کے مختلف طریقے کتنے ہیں۔	A. دو B. تین C. چار D. پلاج
11	امینو ایسٹ کون سے ترتیب سے بنتے ہیں۔	A. خاص سالمی ترتیب B. عام سالمی ترتیب C. مصنوعی سالمی ترتیب D. قدرتی سالمی ترتیب
12	اعلیٰ حیاتی قدر والی غذاوں میں نشوونما کے لیے استعمال ضروری ہوتے ہیں۔	A. امینو ایسٹ B. لحمیات C. امینو ترشے D. وٹان
13	پروٹن کتنے قسم کی ہوتی ہیں۔	A. دو B. تین C. چار D. چھ
14	مکمل پروٹن یا ضروری امینو ترشے کتنے ہوتے ہیں۔	A. دو B. چھ C. چار D. اٹھ
15	احمیات کس سے مل کر بنتے ہیں۔	A. جرمی سے B. نسلستہ سے C. امینو ترش سے D. گندہک سے

